



احباب جماعت کے لئے ضروری معلومات

Coronavirus Infoblatt Nr. 1

پیارے ممبران جماعت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کورونا وائرس دنیا میں اور جرمنی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ آپ کو ہماری میڈیکل احمدیہ مسلم ارگنائزیشن MAMO کے ذریعہ ہم وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ Panic سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح حکومت اور اداروں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جارہی ہیں ان پر عمل کیا جائے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ کورونا وائرس کے کچھ کیسز میں مریضوں کی صورتحال قابل تشویش ہے اور اس کے نتیجے میں اموات بھی وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ عمر رسیدہ اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد اس کا جلد شکار ہو سکتے ہیں۔ نئی معلومات کے مطابق جوان اور تندرست افراد بھی اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جماعتی سطح پر ایک Task Force کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو آپ کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لئے تدابیر اور مفید مشورے فراہم کرے گی۔ جو ہدایات بھیجی جائیں گی ان میں مرکز کی راہنمائی شامل رہے گی۔

احباب جماعت کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس نازک صورتحال میں قطعاً غیر مصدقہ اطلاعات اور افواہوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ جماعت اس سرکلر کے ذریعہ مصدقہ اطلاعات اور صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتی رہے گی۔

اسی سلسلہ میں ایک Hotline اور E-Mail کا بھی اجراء کیا گیا ہے جس پر آپ کورونا وائرس سے متعلق معلومات اور سوالات کی صورت میں رجوع کر سکتے ہیں۔

Hotline: 069 / 509 837 01

E-Mail: coronainfo@ahmadiyya.de

ممبران جماعت کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حضور انور کے ارشاد کی روشنی میں احتیاطی تدابیر کے تحت نزلہ زکام کی شکایت یا بیماری کی صورت میں مساجد میں آنے سے پرہیز کریں۔

جماعت نے تمام External جماعتی پروگرام cancel کر دیے ہیں۔ لوکل جماعتی پروگرامز میں بعض احتیاطی کی جا چکی ہیں۔ البتہ متعلقہ وفاقی حکومت اور اداروں کی ہدایات کی پابندی کی جائے۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان دنوں میں ڈزیکٹ کونٹیکٹ مثلاً مصافحہ وغیرہ سے اجتناب کریں تو بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام دنیا کو اس وبائی آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

والسلام

خاکسار

عبداللہ واگس ہاؤزر (امیر جماعت احمدیہ جرمنی)



احباب جماعت کے لئے ضروری معلومات Coronavirus Infoblatt Nr. 1

حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طرف سے
کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ارشاد

- حکومتوں اور محکموں کی طرف سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔
- بعض ہومیوپیتھی دوائیاں حفظ ماتقدم اور ممکنہ علاج کے طور پر بتائی گئی تھیں۔ ان کو استعمال کرنا چاہیے۔
- مجمع سے بچنا چاہیے۔
- مسجد میں آنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہلکا سا بھی بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے یا چھینکلیں نزلہ وغیرہ ہے تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔
- چھینک لیتے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھیں۔
- ہاتھ اور چہرہ صاف رکھیں۔
- اگر ہاتھ گندے ہیں تو چہرے پر نہ لگائیں۔
- ہاتھوں پر سینینٹائزر (Sanitizer) لگا کر رکھیں یا دھوتے رہیں۔
- اگر وضو صحیح طرح کیا جائے تو ظاہری صفائی بھی ہے اور جو انسان وضو کرے گا نماز بھی پڑھے گا تو یہ ایک روحانی صفائی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔
- جراثیم روزانہ تبدیل کرنی چاہئیں اور دھونی چاہئیں۔
- جسم کی صفائی اور فضا کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔
- اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس بہانے سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اس لیے اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹروں سے تسلی کروالیں کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔
- مصافحوں سے آجکل پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔



احباب جماعت کے لئے ضروری معلومات Coronavirus Infoblatt Nr. 1

مجھے کن چیزوں / باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ اور میرا کیا ردِ عمل ہونا چاہئے؟

مصافحہ اور معائنہ سے پرہیز کریں۔

لوگوں کے ساتھ مصافحے سے پرہیز کریں اور اپنے ہاتھ وقتاً فوقتاً کم از کم تیس سیکنڈ پانی اور صابن کے ساتھ دھوتے رہیں، خاص طور پر ناک صاف کرنے، کھانسی اور چھینکنے کے بعد۔

کھانسی یا چھینک لینے وقت اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے منہ کے آگے کوئی نشور رکھیں اور اسے بعد میں ضائع کر دیں، یا پھر اپنے بغل میں۔

جن کمروں میں ہیٹنگ کا انتظام ہو ان میں بار بار کھڑکی، دروازہ کھول کر ہوا کا گذر کروائیں



اپنے ہاتھوں کو چہرہ سے دور رکھیں، ہاتھوں کو منہ، ناک یا آنکھوں پر پھیرنے سے گریز کریں۔

ایسے برتن، تولیہ اور دیگر چیزیں جو آپ کھانے پینے، نہانے اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلاً اوزار، قلم پینسل وغیرہ صرف اپنے استعمال میں لائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔

ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ لوگوں کے زیر استعمال ہوں ان کو بار بار جراثیم کش دوائی کے ساتھ صاف کریں۔

ایسے لوگ جن کو کھانسی، نزلہ زکام یا بخار کا عارضہ لاحق ہو ان سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں